



## سوال

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے، اس میں کیا حکمت ہے؟

## جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی تھی، اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔

ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دینے میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، یہ حکم عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ ذیل میں چند ایک حکمتیں ذکر کی جاتی ہیں:

1. اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، تاکہ ہر عورت کو خاوند میسر آئے، مرد کو ایک سے زائد عورت سے شادی کرنے کی اجازت دینا ضرورت ہے۔
2. بہت سے لوگوں میں جسمانی قوت باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کو حلال ذریعہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
3. بعض اوقات عورت، بیمار ہو سکتی ہے یا حیض اور نفاس کی صورت میں جماع میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو مرد کو ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ اپنی خواہش حلال ذریعہ سے پوری کرے۔

1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بھی ایک زائد عورتوں سے شادی کی، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی کی، آپ کی تمام بیویاں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیوہ یا مطلقہ تھیں۔

آپ کی متعدد شادیوں میں مندرجہ بالا حکمتوں کے ساتھ علماء نے کچھ مزید حکمتیں بھی ذکر کی ہیں:

1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں سے شادیاں کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبائل کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں اور اسلام کی بھرپور نشر و اشاعت ہو۔

2. وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو یا کسی جنگ میں شہید ہو گیا ہو، اس کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ اس کی کسی مرد سے شادی کر دی جائے تاکہ وہ اس کا سہارے، عورت کی ضروریات پوری ہوں، بچوں کی اچھی تربیت ہو، معاشرے میں عزت و احترام کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو۔

3. امت میں اضافہ ہو، تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں کردار ادا کریں۔



4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے تھی، وہ اس میں آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں اس لیے بھی کیں ہیں تاکہ آپ کی گھریلو زندگی خاص طور عورتوں کے خصوصی مسائل میں امت کی رہنمائی ہو سکے۔ چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائلی زندگی اور عورتوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں تعلیمات حاصل کیں اور پھر ان کے بارے میں امت کو آگاہ کیا۔

واللہ اعلم بالصواب

## محدث فتویٰ کمیٹی

1- فضیلۃ الشیخ عبدالحق صاحب حفظہ اللہ

2- فضیلۃ الشیخ اسحاق زاہد صاحب حفظہ اللہ